

Visit of Vice President of India to Cambodia (11-13

November 2022)

November 13, 2022

ہندوستان کے نائب صدر جمہوریہ کا دورہ کمبوڈیا (11 تا 13 نومبر 2022)

13 نومبر 2022

ہندوستان کے عزت مآب نائب صدر جمہوریہ جناب جگدیپ دھنکھر نے 11 تا 13 نومبر 2022 کمبوڈیا کا کامیاب اور بار آور دورہ کیا۔ دورے کے دوران، وہ 12 نومبر 2022 کو آسیان-ہند یادگاری چوٹی کانفرنس میں شریک ہوئے۔ سال 2022 آسیان-ہند تعلقات کی 30 ویں سالگرہ اور آسیان-ہند منصوبہ جاتی شراکت داری کی 10 سالہ علامت ہے۔ یہ چوٹی کانفرنس تاریخی تھی کیونکہ اس نے آسیان-ہند کے تعلقات کو ایک جامع منصوبہ جاتی شراکت داری کا اونچا مقام عطا کیا ہے۔ جامع منصوبہ جاتی شراکت داری کے اصولوں کو بیان کرنے والا ایک مشترکہ بیان جاری کیا گیا۔

2. عزت مآب نائب صدر جمہوریہ 13 نومبر 2022 کو 17 ویں مشرقی ایشیا چوٹی کانفرنس میں بھی شریک ہوئے۔ چوٹی کانفرنس کے دوران انہوں نے EAS (مشرقی ایشیا چوٹی کانفرنس) میں جس طرح سے اعلیٰ رہنماؤں نے خطے میں فورم کی رہبری کی اسکی اہمیت پر روشنی ڈالی اور اسے مزید مطابقت پذیر، لچکدار اور متحرک بنانے پر زور دیا۔ انہوں نے اس بات کی اہمیت ظاہر کی کہ نیویگیشن کی آزادی اور اوور فلائٹ کو برقرار رکھنے کے ساتھ آزادانہ، کھلے، جامع اور قواعد پر مبنی بند – بحرالکابل کو فروغ دینے کے لئے EAS ایک اہم پلیٹ فارم ہے۔ بند – بحرالکابل میں آسیان کی مرکزیت کے لیے ہندوستان کی وابستگی کا اعادہ کرتے ہوئے، انہوں نے IPOI کے ساتھ AOIP کے اجتماع کے زیادہ تعاون پر زور دیا، اور بحری سلامتی، HARD، بحری وسائل کی پائیدار ترقی میں EAS (مشرقی ایشیا چوٹی کانفرنس) کے لائحہ عمل کو آگے بڑھانے کے لیے ہندوستان کی سرگرمیوں پر روشنی ڈالی۔ عزت مآب نائب صدر جمہوریہ نے خوراک اور توانائی کے بڑھتے ہوئے تحفظ کی اہمیت کا اظہار کیا جو EAS (مشرقی ایشیا چوٹی کانفرنس) اور بند – بحرالکابل سے ماوراء پھیلی ہوئی ہے، اور EAS (مشرقی ایشیا چوٹی کانفرنس) کے اراکین سے 2023 میں جوار کے بین الاقوامی سال میں مکمل شرکت کی درخواست کی۔

3. دورے کے دوران عزت مآب نائب صدر جمہوریہ نے کمبوڈیا کے بادشاہ، وزیر اعظم، سینیٹ کے صدر سے بھی ملاقاتیں کیں۔ تمام میٹنگوں میں کمبوڈیا کی قیادت نے ملک اور اس پر آئے مشکل گھڑی میں ہندوستانی حمایت کی تعریف کی۔

4. عزت مآب نائب صدر جمہوریہ اور وزیر اعظم بن سن کی موجودگی میں ثقافت، حیاتیاتی تنوع اور صحت کے شعبوں میں تعاون سے متعلق مفاہمت کی تین یادداشتوں اور ایک مالیاتی انتظامات کا تبادلہ ہوا۔

5. عزت مآب نائب صدر جمہوریہ نے کمبوڈیا میں تین اضلاع اور ایک کمیون کی ڈیمائنگ کے لیے 426,000 امریکی ڈالر کی امداد کا اعلان کیا، اور ملک کے لیے ITEC سلاٹ کو 200 سے بڑھا کر 250 اور ICCR اسکالرشپ کو 30 سے بڑھا کر 50 کر دیا۔

6. چوٹی کانفرنس سے الگ، عزت مآب نائب صدر جمہوریہ نے ویٹنام کے وزیر اعظم سے بھی ملاقات کی اور دو طرفہ اور کثیر اطرافی امور پر تبادلہ خیال کیا۔

7. عزت مآب نائب صدر جمہوریہ نے سیم ریپ میں ٹا پروہم مندر اور انگکور واٹ مندر کے ورثے کے مقامات کا دورہ کیا اور آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ذریعے ان ثقافتی ورثے کے مقامات پر بحالی اور تحفظ کے کام کا جائزہ لیا۔

8. انہوں نے ٹا پروہم مندر میں ہال آف ڈانسرز کا افتتاح کیا۔ ٹا پروہم کا تحفظ اور بحالی آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا اور APSARA (انگکور اور سیم ریپ کے علاقے کے تحفظ اور انتظام کی اتھارٹی) کا شراکتی منصوبہ ہے جو 2011 سے بنایا جا رہا ہے۔ ہندوستان اس وقت بحالی اور تحفظ کے کام کے تیسرے مرحلے کا بیڑا اٹھا رہا ہے۔

9. انگکور واٹ ٹیمپل کمپلیکس یونیسکو کا عالمی ثقافتی ورثہ ہے۔ ہندوستان نے 1986 تا 1993 کمبوڈیا کی عصری تاریخ کے سب سے مشکل عہد میں 4 ملین امریکی ڈالر کی کل لاگت سے انگکور واٹ کی بحالی اور تحفظ کا کام کیا۔

10. عزت مآب نائب صدر جمہوریہ ہند کے دورہ نے آسیان کے رکن ممالک، خصوصی طور پر کمبوڈیا کے ساتھ ہمارے قریبی تعلقات کو دوبارہ مستحکم کیا ہے۔

نوم پنہ

13 نومبر 2022

DISCLAIMER: This is an approximate translation. The original is available in English on MEA's website and may be referred to as the official press release.